

Mahmud's Aameen

محسود کی آمین

*Hazrat Mirza Ghulam Ahmad*



# Mahmud's Aameen

محمود کی آمین

*(Mahmud Ki Aameen)*

**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian**  
**The Promised Messiah & Mahdi**  
peace be upon him

## **Mahmud's Aameen**

English rendering of "محمود کی آمین" *Mahmud Ki Aameen*  
an Urdu poem written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of  
Qadian, The Promised Messiah & Mahdi, peace be upon him.

Translated into English by  
Mirza Anas Ahmad M.A., M. Litt. (OXON)

First published in Urdu on 7 June 1897  
First published in English in UK in 2016

© Islam International Publications Limited

Published by  
Islam International Publications Ltd  
(Additional Wakaalat-e-Tasneef, UK)  
Islamabad, Sheephatch Lane  
Tilford, Surrey  
United Kingdom GU10 2AQ

Printed in UK at  
Raqem Press  
Farnham, Surrey

**ISBN: 978-1-84880-863-8**

# Mahmud's Aameen

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ<sup>1</sup>  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ<sup>2</sup>

حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی  
**All praise belongs to the Being, Who is Eternal, Everlasting;  
He has no associate, none is His equal.**

باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی  
**He alone endures, all else perishes;  
To fall in love with others than Him is but an idle tale.**

سب غیر ہیں وہی ہے اک دل کا یار حبانی دل میں میرے یہی ہے سبحان مَنْ یَّرَانِیْ  
**All others are the strangers, He alone is the Love of my heart;  
On my heart there is nothing writ large except 'Holy is He Who  
watches over me.'**

ہے پاک قدرت عظمت ہے اسکی عظمت لرزاں ہیں اہل ترسرت کروبیوں پہ بیت  
**Holy is He; of the Holy Powers is He; Greatness is but His  
Greatness. Tremble those who are close to Him; overwhelmed  
with fear are the angels.**

1 In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. [Translator]

2 We praise Allah and invoke His blessings upon His noble Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. [Translator]

## Mahmud's Aameen

ہے عام اس کی رحمت کیونکر ہو شکر نعمت ہم سب ہیں اسکی صنعت اس سے کرو مجبت

**Universal is His Mercy; how can one be grateful to God for His bounty!**

**We all are His creation, so you must love Him.**

غیروں سے کرنا الفت کب چاہے اسکی غیرت یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**How can His sense of honour tolerate that we should love the strangers; Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

جو کچھ ہمیں ہے راحت سب اسکی جو دو منت اس سے ہے دل کی بیعت دل میں ہے اسکی عظمت

**All our comforts are due to His Favours, His Munificence; My heart owes allegiance to Him; in my heart is ingrained His Greatness.**

بہتر ہے اسکی طاعت میں ہے سعادت یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**It is far better to be obedient to Him; all good fortune is due to His obedience; Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا ہم کو وہی پیارا دلبر وہی ہمارا

**He alone is the support of all and sundry; His Mercy is manifest. We love Him, and Him, alone; He alone is our Beloved.**

اس بن نہیں گذارا غیر اس کے جھوٹ سارا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**We cannot subsist without Him; everything besides Him is but all lies. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**



## Mahmud's Aameen

یار ہے تیرا احساں میں تیرے در پہ قرباں تو نے دیا ہے ایماں تو ہر زماں نگہباں

**My Lord this is Your favour, may I be sacrificed at Your altar.  
It is You, my Lord, Who have granted us faith; it is You Who  
alone are all the time our Protector;**

تیرا کرم ہے ہر آل تو ہے رحیم و رحماں یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَزَانِي

**At every moment we are blessed with Your Grace; You are the  
Ever Merciful, the Most Gracious. Make blessed this day; Holy  
is He Who watches over me.**

کیونکر ہو شکر تیرا تیرا ہے جو ہے میرا تو نے ہر اک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا

**I cannot thank You enough; to You belong all that is mine.  
With each and every favour have You filled my home.**

جب تیرا نور آیا حبا تا رہا اندھیرا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَزَانِي

**When Your Light came, all darkness was lifted. Make blessed  
this day; Holy is He Who watches over me.**

تو نے یہ دن دکھایا محمود پڑھ کے آیا دل دیکھ کر یہ احساں تیری شنائیں گایا

**It is You Who have made this day dawn; Mahmud has come  
home, having finished the Quran.  
Having realised this favour, this bounty of Yours, the heart of  
mine is busy singing the praise of Yours.**

صد شکر ہے خدا یا صد شکر ہے خدا یا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَزَانِي

**My God hundreds of thanks I owe to You. Hundreds of thanks  
to You, my God. Make blessed this day; Holy is He Who watch-  
es over me.**

## Mahmud's Aameen

ہو شکر تیرا کیونکر اے میرے بندہ پرور تو نے مجھے دیئے ہیں یہ تین تیرے چاکر

**O, my Sustainer how can I ever thank You enough. You indeed have given me these three sons, who are your servants.**

تیرا ہوں میں سراسر تو میرا رب اکبر یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**I am entirely Yours; You are the Greatest Lord of mine. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

ہے آج ختم قرآن نکلے ہیں دل کے ارماں تو نے دکھایا یہ دن میں تیرے منہ کے قرباں

**Today [Mahmud] has finished the Quran; thus are satisfied all my heartfelt desires.**

**It is You Who have shown me this day. May I be sacrificed to the Countenance of You.**

اے میرے رب محسن کیونکر ہو شکر احساں یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**O my Compassionate Lord, how can I express thanks for this Favour. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

تیرا یہ سب کرم ہے تو رحمت اتم ہے کیونکر ہو حمد تیری کب طاقت قلم ہے

**All this is Your Favour; You indeed are the Most Perfect Mercy. How can one praise You! No pen has the power to do so.**

تیرا ہوں میں ہمیشہ جب تک کہ دم میں دم ہے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**I am always Yours, till I breathe my last. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**



## Mahmud's Aameen

اے فتادرو تو انا آفات سے بچانا ہم تیرے درپہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا

**O, the All-Powerful, the Almighty, do save us from misfortunes. We have come at the threshold of You; indeed we have believed in You.**

غیروں سے دل غنی ہے جب سے کہ تجھ کو جانا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**Ever since I have come to know You, my heart has become such that it cannot turn to others for its needs. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

احتر کو میرے پیارے اک دم نہ دور کرنا بہتر ہے زندگی سے تیرے حضور مسرنا

**My Love, do not, even for a moment, let any distance come between me, the most humble, and You; to die in Your Presence is far better than to live without You.**

واللہ خوشی سے بہتر غم سے تیرے گذرنا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**By Allah, to suffer agony for Your sake is much better than being filled with joy without You. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

سب کام تو بنائے لڑکے بھی تجھ سے پائے سب کچھ تیری عطا ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے

**It is You Who have accomplished all my works. You have given me sons, too. Everything that I have is Your gift. I have not procured it on my own.**

تو نے ہی میرے جانی خوشیوں کے دن دکھائے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**It is You alone, my Love, Who have made these joyous days to dawn. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

## Mahmud's Aameen

یہ تین جو پسر ہیں تجھ سے ہی یہ ثمر ہیں یہ میرے بار و بر ہیں تیرے عنلام در ہیں

**These three, who are the sons of mine, are the 'fruits' that You have bestowed on me. They are my blessed possessions; and they are Your servants, and are at Your beck and call.**

[Ghulaam-e-Darr]

تو سچے وعدوں والا منکر کہاں کدھر ہیں یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَوَانِي

**You indeed keep Your promises, where and whereabouts are the deniers? Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

کر انکو نیک قسمت دے انکو دین و دولت کر انکی خود حفاظت ہو ان پر تیری رحمت

**Bless them with good fortune; endow them with Faith; grant them wealth.**

**You Yourself protect them and envelop them in Your Mercy.**

دے رشد اور ہدایت اور عمر اور عزت یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَوَانِي

**Grant them righteousness and guide them in the right path; bless them with a long life and honour. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

اے میرے بندہ پرور کر انکو نیک اختر رتبہ میں ہوں یہ برتر اور بخش تاج و انسر

**O, my Sustainer, let the fortune smile on them. Let them all be of the most superior stature. And bestow on them eminence and leadership.**

تو ہے ہمارا رہبر۔ تیرا نہیں ہے ہمسر یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَوَانِي

**You are the Guide of ours, none is Your peer. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me**

## Mahmud's Aameen

شیطان سے دور رکھیو اپنے حضور رکھیو جاں پر ز نور رکھیو دل میں سرور رکھیو

**Let not Satan come near them; let them be ever in Your Presence. Let their lives be permeated with Light. Let their hearts be saturated with joy.**

ان پر میں تیرے قرباں رحمت ضرور رکھیو یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**May my life be sacrificed to You, do have Mercy on them. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

میری دعائیں ساری کریو قبول باری میں جباؤں تیرے واری کر تو مدد ہماری

**Answer all my prayers, my Maker. Let me be sacrificed at Your altar. Do be our Helper.**

ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**We have come at Your threshold; we have come full of great hopes. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا دے اس کو عمر و دولت کر دور ہر اندھیرا

**My dear son, Mahmud, is the servant of You. Grant him a long life and wealth. Lift from him every type of darkness.**

دن ہوں مرادوں والے پر نور ہو سویرا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**May his days be the harbingers of the fulfilment of his desires; may his mornings dawn on him with all their light. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

## Mahmud's Aameen

اس کے ہیں دو برادر انکو بھی رکھیو خوشتر تیرا بشیر احمد۔ تیرا شریف اصغر

**He has two brothers. Let them be happy: Your Basheer Ahmad,  
Your Shareef, the youngest.**

کر فضل سب پہ یکسر رحمت سے کر معطر یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**Bless them all with Your Grace; and anoint them equally with  
Your Mercy. Make blessed this day; Holy is He Who watches  
over me.**

یہ تینوں تیرے بندے رکھیو نہ انکو گندے کر ان سے دور یارب دنیا کے سارے پھندے

**All these three are Your servants. Save them from being impure.  
My Lord, let them be free of all the worldly diversions.**

چسنگے رہیں ہمیشہ کریو نہ ان کو مندے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**Let them be always safe and sound; let them not be mediocre.  
Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

اے میرے دل کے پیارے اے مہرباں ہمارے کر انکے نام روشن جیسے کہ ہیں ستارے

**O the Love of my heart, O the Benefactor of ours! Let their  
names shine like stars.**

یہ فضل کر کہ ہوویں نیکو گھریہ سارے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**Do me the favour that they all should be of the virtuous nature.  
Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

## Mahmud's Aameen

اے میری جاں کے جانی اے شاہ دو جہانی      کر ایسی مہربانی ان کا نہ ہووے ثانی

**O, the Beloved of my heart and soul; O, the Lord of both the worlds; do me such a favour that none should be their peer.**

دے بخت جادوانی اور فیض آسمانی      یہ روز کر مبارک      سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**Bless them with everlasting good fortune; bestow on them the heavenly grace. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

سن میرے پیارے باری میری دعائیں ساری      رحمت سے انکو رکھنا میں تیرے منہ کے واری

**O, my Beloved Maker, answer all my prayers. Be compassionate to them; may I be sacrificed to Your Countenance.**

اپنی پنہ میں رکھیو سن کر یہ میری زاری      یہ روز کر مبارک      سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**Listen to this crying and wailing of mine and provide them with Your protection. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

اے واحد ویگانہ اے حائق زمانہ      میری دعائیں سن لے اور عرض چپا کرانہ

**O, the One, the Unique; O, the Creator of the world. Answer my prayers, and accept the submission of [Your] servant.**

تیرے سپرد تینوں دیں کے قمر بنانا      یہ روز کر مبارک      سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**To You I entrust all these three; make them the full Moons of the Faith. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me**



## Mahmud's Aameen

فکروں میں دل حزیں ہے جاں درد سے قریں ہے جو صبر کی تھی طاقت اب مجھ میں وہ نہیں ہے

**On account of worries my heart is anguished; my soul is so close to suffering pain. Whatever strength I had for endurance, I have lost it now.**

ہر غم سے دور رکھنا تو رب عالمیں ہے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**Do not cause us any grief; You are indeed the Lord of all the worlds. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

اقبال کو بڑھانا اب فضل لے کے آنا ہر رنج سے بچانا دکھ درد سے چھڑانا

**Make us ever more prosperous; now, come with Your Grace. Safeguard us against every distress and free us from all affliction and pain.**

خود میرے کام کرنا یا رب نہ آزمانا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**You Yourself accomplish my works; O Lord, do not subject me to any trial. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

یہ تینوں تیرے چاکر ہوویں جہاں کے رہبر یہ ہادی جہاں ہوں یہ ہوویں نور یکسر

**May these three servants of Yours be the Leaders of the world; may they be the Guides of it. Let them all be the Light.**

یہ مرجع شہاں ہوں یہ ہوویں مہر انور یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**Let them be the source [of guidance] for kings. Let each one of them be the brightest Sun. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**



## Mahmud's Aameen

اہل و عتار ہوویں فخر دیا رہوویں حق پر نشار ہوویں مولیٰ کے یار ہوویں

**Let them be dignified, honoured; let them be the source of pride for the country. Let them be totally committed to the Truth. Let them be the friends of the Lord.**

باہرگ دبار ہوویں اک سے ہزار ہوویں یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**Let their progeny flourish. Let each one of them become a thousand. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

تو ہے جو پالتا ہے ہر دم سنبھالتا ہے غم سے نکالتا ہے دردوں کو ٹالتا ہے

**It is but You Who rear; it is but You Who every moment look after us. It is but You Who unburden us from our woes; it is but You Who relieve us of our pains.**

کرتا ہے پاک دل کو حق دل میں ڈالتا ہے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**It is but You Who purify the heart; it is but You Who instil truth into the heart. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

تو نے سکھایا فرمتاں جو ہے مدار ایماں جس سے ملے ہے عرفاں اور دور ہووے شیطان

**You have taught the Furqan, which is the pivot of Faith; through which is gained knowledge; through which the Satan is dispelled.**

یہ سب ہے تیرا احساں تجھ پر نشار ہو جاں یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**This all is Your favour; may I lay down my life for You. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

## Mahmud's Aameen

تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا دین تویم لایا بدعات کو مٹایا

**No sooner had come Your Prophet than he showed us God. He indeed had brought us the firm Faith; he indeed had erased all innovations.**

حق کی طرف بلا یا مسل کر خدا ملایا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**He indeed had called us towards the Truth; he indeed, having become closest to Him, made us close to God. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

قرباں ہیں تجھ پہ سارے جو ہیں میرے پیارے احساں ہیں تیرے بھارے گن گن کے ہم تو ہارے

**O my Beloved, I sacrifice to you all who are my loved ones; large and innumerable are Your favours, we have failed to count them.**

دل خوں ہیں غم کے مارے کشتی لگا کنارے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**My heart bleeds on account of my woes; let this ark reach the shore. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

اس دل میں تیرا گھر ہے تیری طرف نظر ہے تجھ سے میں ہوں منور میرا تو تو قمر ہے

**You occupy this heart of mine, I am always aware of You; I am illuminated because of You, the full Moon of mine is but You.**

تجھ پر مسرتوکل در پر تیرے یہ ہے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي

**It is You on Whom I rely, Whom I trust; this head of mine is indeed lying at Your threshold. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

## Mahmud's Aameen

جب تجھ سے دل لگایا سو سو ہے غم اٹھایا تن حناک میں ملایا حباں پر وبال آیا

Since the time I made my heart fall in love with You, hundreds and hundreds of woes I have suffered. Since then I have made my body roll in dust. Since then I have made my soul to be afflicted with a distressing pain.

پر شکر اے خدا یا جاں کھو کے تجھ کو پایا یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

Yet, O God, I am grateful to You, for I have lost myself, and found You. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.

دیکھا ہے تیرا منہ جب چمکا ہے ہم پہ کوکب مقصود مل گیا سب، ہے جام اب لبالب

When we beheld Your Countenance, the shining star then had begun shining on us; I have achieved all my objectives; overflowing is my goblet.

تیرے کرم سے یارب میرا بر آیا مطلب یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

O, Lord! It was through the Grace of You that I achieved my objective. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.

احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے

All friends have arrived; You have made these days to dawn. It is the kindness of You, my Love, that has brought here these affectionate ones.

یہ دن چڑھا مبارک مقصود جس میں پائے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

This blessed day has dawned in which all my wishes are fulfilled. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.

## Mahmud's Aameen

مہماں جو کر کے الفت آئے بصد محبت دل کو ہوئی ہے فرحت اور جاں کو میری راحت

**The guests who have, out of affection, come with lots, and lots, of love. It has made my heart so happy, and my soul so joyful!**

پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**The heart, though, becomes so sad when I think of the moment of their departure. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

دنیا بھی اک سہرا ہے بچھڑے گا جو ملا ہے گر سو برس رہا ہے آہنر کو پھر جدا ہے

**This world is but a temporary abode; whoever arrives must leave. Even if one lives for a hundred years, one has to at last breathe one's last.**

شکوہ کی کچھ نہیں جا یہ گھر ہی بے بقا ہے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**There is no occasion to complain, this very abode is not eternal. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

اے دوستو پیارو عقبی کو مت بسا رو کچھ زادِ راہ لے لو کچھ کام میں گزارو

**O my friends, the dear ones, do not be forgetful of the hereafter; provide for the journey into the next life, keep busy doing good deeds.**

دنیا ہے جائے فانی دل سے اسے اتارو یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي

**The world is but a place, transitory; erase it from your hearts. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

## Mahmud's Aameen

جی مت لگاؤ اس سے دل کو چھڑاؤ اس سے رغبت ہٹاؤ اس سے بس دور جاؤ اس سے

**Do not let your hearts be in love with it; free your hearts from it; do not be inclined towards it; in short, move away from it.**

یارو یہ اژدہا ہے جہاں کو بچپاؤ اس سے یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِيْ

**Friends, it is a python, safeguard your lives against it. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

قرآن کتاب رحمان سکھائے راہِ عرفاں جو اسکے پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضان

**The Quran, the Book of the Gracious God, teaches the path of knowledge; those who read it, on them is bestowed the Grace of God.**

ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایماں یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِيْ

**May the mercy of God be on those who believe in it! Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

ہے چشم ہدایت جس کو ہو یہ عنایت یہ ہیں خدا کی باتیں ان سے ملے ولایت

**It is the fountainhead of Guidance to whomsoever it is granted; this is the Word of God through which one becomes a man of God.**

یہ نور دل کو بخشنے دل میں کرے سرایت یہ روز کر مبارک سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِيْ

**It bestows light on the heart; it permeates the heart. Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**

## Mahmud's Aameen

فترآں کو یاد رکھنا پاک اعتقاد رکھنا فکرمعاد رکھنا پاس اپنے زاد رکھنا

**Remember the Quran; be pure of beliefs. Constantly think of the hereafter; and be provided for it.**

اکسیر ہے پیارے صدق و سداد رکھنا یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی

**O the dear one, to be Truthful and Sincere is the panacea.  
Make blessed this day; Holy is He Who watches over me.**





## *Mahmud's Aameen*

محمود کی آمین

*(Mahmud Ki Aameen)*

*Mahmud Ki Aameen*, which was composed by the Promised Messiah to celebrate the occasion when Hazrat Mirza Mahmud Ahmad, had finished the Holy Quran, is one of the most well-known poems of his. Reading it, one hears the singing of the Praise of the Lord; the anguished sighs of the most devoted Heart, 'the wailing and crying' of the purest Soul at the threshold of God; and one finds its refrains so pregnant with the Exaltation of, and prayers to, the Almighty. It is the epitome of the most comprehensive prayers ever offered to God. In short, it is one of the most precious gems that the Promised Messiah has bequeathed to us. May peace and blessings of Allah be on him. May each of us have the fullest share of the blessings of it. Aameen